

اڈوانس پلاننگ برائے غیر شہری والدین

ٹس کلیمر: یہ ایڈوائزی لیگل ایڈ سوسائٹی، یونٹ برائے امیگریشن لائے تیار کی ہے۔ یہ ایڈوائزی کوئی قانونی مشورہ نہیں ہے، اور کسی بھی امیگریشن کی ماہرانہ رائے کا بدل نہیں ہو سکتی۔

اگر آپ نہ بالغ بچہ کے والدین ہیں، اور آپ امریکی شہری نہیں ہیں، اور اس بات کا آپ کو در کہ آپ کو مستقبل میں امریکا سے نکالا جا سکتا ہے، تو اس صورتحال کے لئے آپ کی اقدامات کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کے بچہ کی حفاظت اور دیکھ بھال کو یقینی بنایا جا سکے۔

اسکول کے ایمرجنسی رابطہ

اگر آپ کا بچہ اسکول میں زیر تعلیم ہے، تو آپ تین لوگوں کا نام دے سکتے ہیں جن سے ایمرجنسی کی صورتحال میں رابطہ کیا جا سکے یا اگر آپ کا بچہ بیمار ہو۔ ان تینوں ناموں کا اپنے بچے کے "بلو کارڈ" میں اضافہ کروا دیں۔

- Blue Card, NYC DOE <http://bit.ly/2p1GOXd>

پاسپورٹ

اس فارم کو اپنے بچہ کے پاسپورٹ کی درخواست کے لئے استعمال کرو، اگر وہ امریکا کا شہری ہے۔ اگر وہ 18 سال سے کم ہے، تو دوسرے والدین کو اپنی منظوری دینی ہوگی، یا آپ کو واضح کرنا ہوگا کہ کیوں دوسرے والدین کی اجازت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا یا ضروری نہیں ہے۔

- Form DS-11, U.S. Passport Application <http://bit.ly/2oUTa3A>
- Form DS-3053, Consent of Other Parent <http://bit.ly/2nAUNmY>

اگر آپ کا بچہ امریکا کا شہری نہیں ہے، تو آپ صحیح غیر ملکی سفارت خانہ سے پوچھو کہ کیسے آپ کے بچہ کے لئے پاسپورٹ کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔

سفر کی اجازت

اگر آپ اپنے نابالغ بچے کو غیر ملک میں سفر کے لئے مختار بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ غیر ملکی سفر میں آپ کے بچہ کے ساتھ رہے تو آپ اس authorisation (پہر والدین کو ایک پر دستخط کرنی چاہئے، یا آپ یہ واضح کیجئے کچ کیوں دوسرے والدین کی اجازت کو نہیں حاصل کیا جا سکتا یا ضروری نہیں ہے)۔ اس پر دستخط نوٹری پبلک کے سامنے کئے جائیں گے۔ آپ کا بچہ اپنے اصلی پیدائشی سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ اور اسی طرح سے ان دستاویزات کے نسخوں کے ساتھ جو ٹریول پرمیشن فارم پر درج ہیں کے ساتھ سفر کریگا،

- Travel Permission <http://bit.ly/2p3HMzt>

یہاں پر کچھ ایئر لائنز کی اکیلے بچوں کے سفر کے تعلق سے پالیسیز کا ذکر جا رہا ہے:

- United Airlines <http://bit.ly/1UZKdw5>
- American Airlines <http://bit.ly/2a2mkWt>
- Delta Airlines <http://bit.ly/1f9erXy> (click on "Children traveling alone")
- Jet Blue <http://bit.ly/2oIh9Sz>
- Aero México <http://bit.ly/2ojXgyv> (click on "Children")

والدین کے طور پر شخص کا رشتہ

اس فارم کو کسی کو اس بات کی اجازت دینے کے لئے استعمال کرو کہ وہ آپ کے بچہ کے اسکول اور صحت سے متعلق فیصلہ کر سکے۔ اس پر دستخط نوٹری پبلک کے سامنے کرو۔ آپ اس کے لئے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔

- Designation of Person in Parental Relationship, in English <http://bit.ly/2o3HQhH>
- Designation of Person in Parental Relationship, in Spanish <http://bit.ly/2nB67iX>

وقتی سرپرستی کا عہدہ

یہ فارم صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو سنگین طبی مسائل سے دو چار ہیں۔ یہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اس وقت جب کہ ڈاکٹر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر نہ حال ہو چکے ہو؛ اگر آپ جسمانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں اور آپ اس عہدہ کے عمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں؛ یا آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اسے فیملی کورٹ میں فائل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔

- Standby Guardianship Designation <http://bit.ly/2oYinKB>

پاور آف اٹارنی

اس فارم کو کسی کو اس بات کی اجازت دینے کے لئے استعمال کرو تاکہ وہ آپ کے پراپرٹی کے سودوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ اس پر نوٹری پبلک کے سامنے دستخط کی جانی چاہئے۔ آپ کو اس کے لئے وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پاور آف اٹارنی بلاواسطہ آپ کے بچوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لئے فکر مند نہیں ہوتی ہے، وہ صرف پراپرٹی کے مسائل جیسے بینک اکاؤنٹ، اپارٹمنٹ کے معاہدہ، انشورنس کے مسائل ہیلتھ کیئر کی بلنگ اور اسی طرح سے بہت کچھ تک ہی محدود ہے۔

- Power of Attorney <http://bit.ly/2p3CRyw>

عدالت میں سرپرستی یا کسٹڈی پیشین

فیملی کورٹ یا سروگیٹ کورٹ باقاعدہ سرپرستی یا آپ کے بچہ کی حفاظت کے تعلق سے آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ وارننگ: اگرچہ سرپرستی یا کسٹڈی کا آرڈر کسی کے اختیارات کو قائم کرنے میں آپ کے بچہ کے تعلق سے بہت مفید ہو سکتا ہے، تمام طرح کے خطرات کورٹ میں کسٹڈی، سرپرستی یا وقتی سرپرستی کے لیے جانے پر ہو سکتے ہیں۔

- دوسرے والدین کو عام طور سے عدالت کی کاروائیوں کے بارے میں مطلع کیا جانا چاہئے۔
- دوسرے والدین امیگریشن کو عدالت میں آنے کے لیے کہہ سکتے ہیں جب وہاں جا رہے ہوں! یہ خاص طور پر خطرناک ہے اگر آپ کو پہلے سے ہی نکلنے کا آرڈر مل چکا ہے۔
- دوسرے والدین دوبارہ حاضر ہو سکتے ہیں آپ کے بچہ کی زندگی سے نکلنے کے بعد بھی، اور آپ کے بچہ کے تعلق سے پیشین کو داخل کر سکتے ہیں۔
- ایک عدالت کی لڑائی میں، دوسرے والدین کے پاس آپ کے بچہ کے تعلق سے زیادہ اختیارات ہوں گے اس شخص کے بالمقابل جو پر آپ امید کرتے ہیں کہ وہ کسٹڈی یا سرپرستی حاصل کر لیگا۔
- ایک بار کسٹڈی آرڈر فائنل ہو جانے کے بعد، کورٹ سے آرڈر کو بدلوانا بڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ بٹ لے اگر آپ کسٹڈی کو واپس لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے بچہ کی زندگی میں مستقل بدلاؤ کو دکھانا پڑیگا؛ اور یہ دکھا پانا بڑا مشکل ہوگا۔
- کسٹڈین آپ سے چائلڈ سپورٹ حاصل کر سکتا ہے!

اہل وکیل سے کسی بھی طرح کی عدالتی کاروائی جو آپ کے بچہ کے تعلق سے کے شروع ہونے سے پہلے بات کرو۔

اگر آپ کو کوئی اشکال ہے یا مدد کی ضرورت ای، تو براہ کرم آپ ہمارے امیگریشن نمبر 844-955-3425 رابطہ کریں۔